

Haleon Pakistan Limited

عمدوری نقد ڈیویڈنڈ اور شیئر کتب کی بندش کا نوٹس

Haleon Pakistan Limited ("کمپنی") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 26 اگست 2025 کو، 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے ششماہی کے لیے، عمومی شیئرز پر 10 روپے فی شیئر (100%) کا عموری نقد ڈیویڈنڈ ادا کیگی کا اعلان کیا ہے۔

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتب مورخہ 4 ستمبر 2025 5 تا ستمبر 2025 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی قسم کی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شارع فیصل، کراچی کے دفتر میں 3 ستمبر 2025 کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو سال 2025 کے عموری نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

نوٹس:

1. سی این آئی سی/این ٹی این کی کاپی جمع کرنا - الیکٹرانک ڈیویڈنڈ (لازمی):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2012/1(1) SRO831 مورخہ 5 جولائی 2012 کو 2014/1(1) SRO19 مورخہ 10 جنوری 2014 اور دیگر متعلقہ قواعد کے مطابق الیکٹرانک ڈیویڈنڈ میں رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز یا مجاز شخص ماسوائے نابالغوں اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کا سی این آئی سی نمبر بھی درج ہونا چاہیے۔

مزید براں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن نمبر 6 اور 2017/1(1) SRO485 مورخہ 18 اپریل 2018 اور 2020/1(1) SRO441 مورخہ 14 مئی 2020 کی ترامیم کے مطابق، کمپنی شیئر ہولڈرز یا مجاز شخص کے شناختی نمبر (سی این آئی سی یا نیٹیل ٹیکس نمبر) کی عدم دستیابی کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کا پابند ہے۔

لہذا، وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنا درست سی این آئی سی یا این ٹی این سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا، ان سے گزارش ہے کہ فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شارع فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔ کارپوریٹ ادارے اپنے نیٹیل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اور فلیو نمبر بشمول مجاز نمائندے کی سی این آئی سی کی کاپی فراہم کریں۔

2. الیکٹرانک طریقے سے نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکٹر نمبر 18 سال 2017 مورخہ 1 اگست 2017 اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ضوابط 2017 کے تحت ہدایات اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیاں پابند ہیں کہ 1 نومبر 2017 سے نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک طریقے سے ادا کیا جائے۔ لہذا شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی پیک تفصیلات، بشمول: (i) اکاؤنٹ کا نمٹیل، (ii) اکاؤنٹ نمبر، (iii) IBAN نمبر، (iv) بینک کا نام، (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ، اور (vi) موبائل نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ جن شیئر ہولڈرز کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) یا شرکاء کے پاس موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ معلومات اپنے متعلقہ شرکاء/CDC کو فراہم کریں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق (3) 243 کے مطابق، اگر مطلوبہ معلومات فراہم نہ کی جائیں گی تو کمپنی کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کا اختیار حاصل ہے۔

شیئر ہولڈرز کی ہولڈ کے لئے کمپنی کا ای۔ ڈیویڈنڈ میڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر دستیاب ہے۔

3. ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی:

شیئر ہولڈرز جن کے نام فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اندراج کیلئے ضروری اقدامات کریں تاکہ وہ فعال (ایکٹیو) ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ پر قانون کے مطابق ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

مزید براں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) سے موصول وضاحت کے مطابق، مشنر کا اکاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور مشنر کہ ہولڈرز کے فعال/غیر فعال اسٹیٹس کی بنیاد پر ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس علیحدہ علیحدہ لاگو کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں، تمام شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز مشنر کہ شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پرنسپل شیئر ہولڈر اور مشنر کہ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کریں۔

فولیو ای ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر	مشنر کہ شیئر ہولڈر
		نام اور CNIC نمبر	نام اور CNIC نمبر
		شیئر ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)	شیئر ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)

i. مطلوبہ معلومات 3 ستمبر 2025 کے کاروباری وقت کے اختتام سے قبل شیئر رجسٹرار کو لازمی موصول ہو جائیں۔ بصورت دیگر فرض کیا جائے گا کہ پرنسپل اور مشنر کہ ہولڈرز کے پاس یکساں شیئرز ہیں اور ای کے مطابق ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

ii. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا CNIC / پاسپورٹ نمبر شرکاء/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا (اگر شیئرز فزیکل صورت میں ہوں تو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔

iii. وہ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جن کے سی ڈی سی اکاؤنٹس ہیں، سے استدعا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کو اپنا نیٹیل ٹیکس نمبر (NTN) اپڈیٹ کروائیں۔ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ تمام شیئر ہولڈرز کو NTN یا NTN سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت اپنی کمپنی کا نام اور متعلقہ فلیو نمبر لازمی درج کریں۔

iv. ڈیویڈنڈ آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی استثنی صرف اس صورت میں دیا جائے گا جب کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو 3 ستمبر 2025 تک درست ٹیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی دستیاب کر دی جائے۔

4. بچے کی آمدنی اور زکوٰۃ کا اسٹیٹس

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پوسٹل ایڈریس یا ای میل ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہو، تو زکوٰۃ کی عدم کوٹنی کا فارم جمع کرائیں۔ مزید برآں، سی ڈی سی کے ذریعے اپنے شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شرکاء کو اب ڈیٹ کریں۔

5. غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئرز سرٹیفکیٹس

کمپنی اس سے قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کر چکی ہے جس کے تحت کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز کا دعویٰ کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا تھا۔ وہ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈز/شیئرز سرٹیفکیٹ ابھی تک غیر کلیم شدہ ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیویڈنڈز کی رقم اور یا غیر تقسیم شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کلیم کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کریں۔

بحکم بورڈ



مترجمہ مشعل محمد

میر سٹرائٹ لاء

کمپنی ریکریٹری

کراچی

28 اگست 2025